

سرچشمہ حیات (کلیدِ اعظم)، مصنف فیروز نظامی۔ شائع کردہ نظامی پبلیکیشنز لاہور۔ صفحات ۱۹۶۔
قیمت ۲ روپے ۵۰ پیسے۔

اس کتاب میں نظامی صاحب نے دولت، عزت اور شہرت سے محروم لوگوں کو اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے ایک پوشیدہ عمل بتایا ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی زندگی کا ایک واضح مقصد متعین کرنا چاہیے، پھر وہ حصول مقصد کے تصور سے ہر وقت سرشار رہے اور اپنی کامیابی کا یقین رکھے۔ اس کا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ مطلوبہ مقصد کو ناممکن بنانے والے اندیشے اور خیالات مٹ کے رہ جائیں، اس کے بعد کامیابی یقینی ہے۔ جہاں تک سعی و عمل کا تعلق ہے اُس کی کم از کم اس کتاب کو پڑھ کر کوئی ضرورت محسوس نہیں آتی نیز تبصرہ کتاب میں قاری کو بعض مفید چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ مگر بنیادی شے ہی فارمولہ ہے کہ تصور کیجیے اور حاصل کیجیے۔ ہمیں اس فارمولے کے پہلے حصہ سے پورا اتفاق ہے لیکن دوسرے حصے سے اختلاف ہے۔

ہماری رائے میں سرچشمہ حیات، توکل علی اللہ اور دعا کی تاثیر کا صحیح تصور پیش نہیں کرتی۔

تعرف تصنیف امام ابو بکر بن ابوالفتح (م ۲۹۵ھ) ترجمہ ڈاکٹر میر محمد حسن۔ شائع کردہ المعارف گزٹنگز لاہور۔ صفحات ۲۶۴۔ قیمت ۱۵ روپے۔ کتابت طباعت نہایت عمدہ اور دیدہ زیب۔
علم تصوت انسان کو باطنی طور پر طہارت و تزکیہ عطا کرتا ہے اور بلاشبہ صبر و توکل، توبہ و اخلاص اور تسلیم و رضا کے اوصاف حمیدہ اس کی بدولت نشوونما پاتے ہیں۔ تعرف اس موضوع پر قدیم ترین کتاب ہے جس میں امام موصوف نے صوفیاء کے عقائد و احوال پر تحقیقی روشنی ڈالی ہے اور ابتدائی ادوار میں ہی اس علم کے خلاف جو نفرت اور بیزاری دلوں میں پیدا ہو گئی تھی اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اصل کتاب عربی میں تھی جس کا اردو ترجمہ ڈاکٹر میر محمد حسن صاحب نے زیر نظر کتاب کی صورت میں پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا ترجمہ رواں اور سنگفتہ ہے۔

کتاب میں توحید و صفات باری، اسمائے حسنیٰ اور کلام الہی کے بارے میں اہل تصوت کے صحیح خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ مسائل جبر و قدر، تکلیف و شفاعت، حقیقت روح اور معرفت الہی کو نہایت چمکے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز زہد و ورع، فقر و مسکنت، خوف و تقویٰ، یقین و رضا، ذکر و شکر